

AMiD

معذور تارکین وطن کے لیے خدمات تک رسائی

AMIF-2016-AG-INT

AMiD پراجیکٹ کے ضروریاتی تجزیے کا ٹول استعمال کرنے کے لیے رضامندی فارم

میں، _____ بذریعہ ہذا یہ اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ:

(نام)

1. مجھے ضروریاتی تجزیے کے ٹول (NAT) سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور میں یہ سمجھ چکا/چکی ہوں کہ یہ ٹول کس بارے میں ہے، پراجیکٹ میں اس کا کیا کردار ہے اور یہ کن مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔
2. میں انٹرویو کے اس عمل میں شرکت پر رضامند ہوں کیونکہ میرا ذاتی تجربہ زیر تحقیق معاملات کی سمجھ میں اضافہ کرے گا۔
3. مجھے ذمہ دار کارکن کی جانب سے NAT کے ایک یا زائد سوالات کے جوابات نہ دینے کا اختیار حاصل ہے۔
4. میں کسی بھی وقت اپنی مرضی سے انٹرویو سیشن میں اپنی شرکت کو روک سکتا/سکتی ہوں۔ انٹرویو کے دوران، یا اختتام پر، میں اپنے بعض تاثرات میں ترمیم یا انہیں حذف کرنے کا کہہ سکتا/سکتی ہوں۔
5. میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ انٹرویو کے دوران میرے جوابات کا NAT میں آن لائن اندراج کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں، میرے تمام جوابات بطور گمنام فرد ہوں گے اور کسی قسم کا ذاتی مواد ظاہر نہیں کیا جائے گا۔
6. میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ تمام مواد کو محفوظ اسٹوریج میں رکھا جائے گا۔ کسی بھی مواد تک صرف ذمہ دار کارکن اور میرے معاملے پر کام کرنے والے فرد سے متعلقہ کسی دوسرے شخص کی ہی رسائی ہوگی اور اسے تحقیقی پراجیکٹ کی تکمیل کے بعد دو سال کے اندر اندر حذف کر دیا جائے گا۔
7. میری شرکت مکمل طور پر گمنام ہو سکتی ہے: میری شرکت کا حوالہ صرف ایک عددی کوڈ کے ذریعے دیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ یا اظہار کرتے ہوئے، انٹرویو کے دوران فراہم کردہ معلومات اور مواد کا حوالہ اسی عددی کوڈ سے دیا جائے گا۔
8. میری جانب سے فراہم کردہ معلومات کو صرف NAT کے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔
9. میری شرکت مکمل طور پر رضاکارانہ ہے اور میں کسی بھی وقت اس سے دستبردار ہو سکتا/سکتی ہوں۔

میں اس تحقیقی جائزے میں شرکت پر رضامند ہوں۔

دستخط:

مکمل نام: